


FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Appeal No. 2032/2023

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1-	09/10/2023	<p>The appeal of Mr. Saeed-ur-Rehman presented today by Mr. Faqir Hussain Advocate. It is fixed for preliminary hearing before Single Bench at Peshawar on _____ Parcha Peshai is given to the counsel for the appellant.</p> <p>By the order of Chairman  REGISTRAR</p>

BEFORE THE KHYBER PUKHTUNKHWA SERVICE
TRIBUNAL PESHAWAR

Service appeal No 232 2023.

Saeed Ur Rehman **Versus** *IGP/PPO & others*

INDEX

S. No	Description of Documents	Annexure	Page No
2	Grounds of appeal		1-5
3	Affidavit		6
4	Addresses of the parties with list of Books		7
5	Application for the condonation of delayed		8-9
6	Copies of the DD reports	A	10-12
7	Copy of the Certificate of PDRM Course	B	13
8	Copy of the ex parte enquiry report with the impugned original order dated 17/11/2021	C & D	14-18(B)
9	Copy of the departmental appeal with order dated 23/05/2022	E	19-20
10	Copy of the review/mercy petition with official communications	F & G	21-24
11	Vakalatnama/power of attorney		Original

Through

Petitioner Saeed Ur Rehman


Faqir Hussain

Advocate High Court

①

BEFORE THE KHYBER PUKHTUNKHWA SERVICE
TRIBUNAL PESHAWAR.

Service appeal No 2032 of 2023

Saeed Ur Rehman SI, No-161-H District Kollai Pallas posting in CTD
DI Khan Region-I....."Appellant"

Versus

1. IGP/PPO Khyber Pukhtunkhwa Peshawar.
2. DIG CTD Khyber Pukhtunkhwa Peshawar
3. SP CTD Hazara Region at Abbottabad..... "Respondents"

SERVICE APPEAL UNDER SECTION 4 OF THE
KHYBER PUKHTUNKHWA SERVICE
TRIBUNAL ACT 1974 R/W POLICE RULES 1975
WITH 2014 AMENDMENTS AGAINST THE
IMPUGNED ORIGINAL ORDER VIDE OB NO-42
DATED 17/11/2021 PASSED BY THE
RESPONDENTS NO-3 WHEREBY THE
APPELLANT WAS ILLEGALLY AWARDED
MINOR PUNSHMENT OF "CENSURE AND FROM
23/09/2021 TO 10/10/2021 A TOTAL PERIOD OF 18
DAYS WAS HEREBY TREATED AS LEAV WITHOUT
PAY" AND THE APPELLAT ORDER VIDE OB
NO-8770-74 DATED 23/05/2022 PASSED BY THE
RESPONDENT NO-2

Prayers,


On the acceptance of this appeal the impugned original order dated 17/11/2021 of the respondent No-03 and the appellate order dated 23/05/2022 of the respondent No-2 may kindly be set aside and the appellant may kindly be relinquished from the charges.

Respectfully Sheweth,

1. That the appellant is honestly and efficiently serving in the police department from the last 25 years and there is no adverse remarks or bad entry in the

whole service record of the appellant, furthermore the appellant was recruited as a constable in the police department from the parent District Kollai Pallas and after obtaining necessary Courses and training become a Sub Inspector, while the appellant was posted in the Counter Terrorism department of Hazara Region working under the immediate control of the respondent No-3 during that period on 13/09/2021 the appellant was transferred from Hazara Region to DI Khan Region which was communicated to the appellant on 23/09/2021.

2. That the after communication of the impugned transferred order dated 13/09/2021 by the concerned reader the appellant replied to the concerned clerck/ reader that the appellant have been selected for PDRM Course training Centre Mardan so in this respect a request for the departure was made but instead of Course in the absence of the appellant they malafidely made departure for DI Khan, so on the basis of Police rules 1934 Chapter 19 rules 25 sub rule 7 the appellant joined the PDRM Course and after completion obtained Certificate from the said Centre.(copy of the PDRM Certificate is attached with the appeal)
3. That when the appellant reached back to joined his duty he made his arrival vide DD no-8 ted 11/10/2021, so the appellant relinquished his charge and joined at DI Khan in state of emergency, but instead of DI Khan official the official at Hazara Region illegally with malafide intention open an enquiry against the appellant and in his absence an ex partee enquiry was conducted and no summon was issued to the appellant and no opportunity of defense was provided toe pre planned purpose of awarding punishment to the appellant. (Copy of all DDs and enquiry report is attached with the appeal)



3

4. That after completion of the ex parte enquiry against the appellant the competent authority/respondent No-3 blindly without giving of any opportunity to the appellant followed the recommendation of the enquiry officer and awarded the punishment prescribed the enquiry officer and thus had passed the impugned order dated 17/11/2021. (Copy of the enquiry report with the impugned order dated 17/11/2021 are attached with the instant appeal)
5. That feeling aggrieved from the competent authority/respondent No-3 the appellant filed a departmental appeal/representation before the respondent No-2, so without providing of an opportunity of defense and hearing of the appellant the appeal was also straight away dismissed vide impugned order dated 23/05/2022 on the basis of technical manner. (Copy of the appeal and impugned order dated 23/05/2022 the respondent No-2 are attached)
6. That thereafter on 26/05/2022 the appellant preferred a review/mercy petition before the respondent No-1 the worthy Inspector General/provincial Police Officer Khyber Pukhtunkhwa, which is still pending and for the expedition of the same so many application was made but in vain hence a revengeful order dated 16/08/2023 vide Letter No-13986-90 EC/CTD was again passed against the appellant and he was against transferred to DI Khan from Hazar Region despite of the completed period and excessive service in CTD out Region as the appellant had already spent 21 Months in CTD DI Khan. (Copy of the mercy/review petition with impugned transferred order are attached with the instant appeal)



7. That now the appellant approaches this honorable tribunal on the following grounds amongst the others.

GROUNDS,

A. That impugned order of the respondents against the appellant are not maintainable at any cost on the grounds that the appellant was not absent and was present in official Course as per selection of superior officers.

B. That as per the police rules and enquiry rules when the appellant relinquished charge at Hazara Region then official of Hazara Region was not competent to charge sheeted the appellant and conducted enquiry and awarded him punishment for the offence which is not committed with in their authority and domain.

C. That respondent No-3 in case of any professional misconduct of the appellant was having the only option to send the enquiry to the concerned official of the department at DI Khan.

D. That an enquiry of the matter was conducted by the Gulzar Khan DSP of the same Region but it was kept concealed by the respondents just to maintain the impugned order of punishment against the appellant.

E. That the appellant times in again approaches the respondents for the needful but in vain due to the lack of interest of the respondents, the appellant was being sending to each other's for the needful.

F. That both the impugned order passed by the respondents are totally illegal unlawful, void ab anitio perverse fanciful hence not maintainable at any cost.



82

(5)

G. That in the present situation and circumstances the appellant has no other remedy except to file the instant service appeal.

H. That under the constitution of the Islamic republic of Pakistan courts is the guardian and custodian of the fundamental rights of the citizen protected under the constitution.

It is therefore most humbly prayed that on the acceptance of this appeal the impugned original order dated 17/11/2021 of the respondent No-03 and the appellate order dated 23/05/2022 of the respondent No-2SS may kindly be set aside and the appellant may kindly be relinquished from the charges.

Appellant Saeed UR Rehman

Through.

Faqir Hussain

&

Jamroz Khan

Advocates High Court

Peshawar

Certificate

Certified no such like service appeal has earlier been Filed or pending before this honorable Court.

Lists of Books:

1. Police Rules 1934.
2. Police disciplinary proceeding Rules 1975.
3. Police Act 2017.
4. Civil Servant E & D rules 1973.


Advocate

6

**BEFORE THE KHYBER PUKHTUNKHWA SERVICE
TRIBUNAL PESHAWAR**

Service appeal No _____ 2023.

Saeed Ur Rehman **Versus** *IGP/PPO & others*

Affidavit

I Saeed Ur Rehman SI, No-161-H District Kollai Pallas posting in CTD DI Khan Region-I do hereby solemnly affirm and declare on Oath that the contents of the accompany Service appeal, the grounds of the application for interim relief as well as the grounds of the application for condonation of delay are true and correct to the of my knowledge and belief and nothing have been kept concealed from this Honorable Tribunal/Court.

Deponent 

Saeed Ur Rehman
CNIC No: 

12 SEP 2023



Appellant Saeed Ur Rehman
Through 
Faqir Hussain Advocate

09/09/23

(7)

Before The Khyber Pukhtunkhwa Service

Tribunal Peshawar

Service appeal No _____ 2023.

Saeed Ur Rehman **Versus** **IGP/PPO & others**

Addressees of the parties

PETITIONER ADDRESS,

*Saeed Ur Rehman SI, No-161-H District Kollai Pallas posting in CTD
DI Khan Region-I*

RESPONDENTS ADDRESSES,

1. IGP/PPO Khyber Pukhtunkhwa Peshawar, office at fort Road
Central Police office Peshawar.
2. DIG CTD Khyber Pukhtunkhwa Peshawar, office at fort Road
Central Police office Peshawar.
3. SP CTD Hazara Region at Police line Abbottabad.

Appellant Saeed Ur Rehman

Through

Faqir Hussain Advocate

High Court Peshawar

8

BEFORE THE KHYBER PUKHTUNKHWA SERVICE
TRIBUNAL PESHAWAR

Service appeal No _____ 2023.

Saeed Ur Rehman **Versus** *IGP/PPO & others*

APPLICATION FOR CONDONATION OF DELAY
IF ANY DUE TO THE PENDENCY OF
REVIEW/MERCY PETITION THE SERVICE
APPEAL WAS NOT FILE IN PROPER TIME

Respectfully Sheweth,

1. That the appellant/petitioner has instituted the instant case for which no date of hearing has been fixed for adjudication before this Honorable Tribunal/ Court yet.
2. That the appellant/petitioner was aggrieved from the original as well as appellate forum order so the appellant made both of the order impugned before the high authority.
3. That the appellant/petitioner as soon as the impugned appellate order announcement dated 23/05/2022 preferred department review/mercy petition on 26/05/2022 before the respondent No-1 the head of the departmental and final authority but the same was so prolonged and despite of repeated applications and remainders the same was not decided yet.
4. That if due to pendency of review/mercy petition the present appeal is caused/occasioned any delay may kindly condoned the same.

9


5. *The ground of main appeal may kindly be considered s the integral part of this application being mixed question of law and facts, just to avoid technicality in the best interest of justice.*
6. *That with the instant Service a precious/worthy object interest of the appellant/ petitioner is attached with the instant appeal.*
7. *That any other grounds will be raised at the time of arguments with the prior permission of this apex Court.*

It is therefore most humbly prayed that on the acceptance of this petition condonation of delayed order may kindly be passed in favor of the petitioner against the respondents as prayed for

Petitioner Saeed Ur Rehman

Through

Faqir Hussain Advocate



10

A

Annex

از دفتر CTD کوئٹہ


ضلع کوئٹہ

تقلیٰ ریٹائرمنٹ روزنامہ 9/23/2021


حدس روایتی سیدالرحمان ASI 9/23/2021 وقت 10:00 بجے اس وقت لوگوں
 آرڈر نمبر 37-11532 جو 9/2021 10 بجایم ضابطہ DIK ضابطہ CTD
 KPK پشاور سیرا بنڈل DIK ضابطہ ضلع KP کوئٹہ سے CTD ضابطہ
 DIK محل میں لایا گیا ہے۔ میں لیوریٹ بنڈل CTD ضابطہ ضلع KP کوئٹہ
 سے نمائندگی کے لئے آئیڈیا بار کارولڈ پھونڈا روایتی روزنامہ
 سیکرٹریٹ ریٹائرمنٹ سروسز پورٹل میں ڈیٹا انٹرنیٹ کے ذریعے ارسال کیا گیا ہے

ضابطہ

تقلیٰ ریٹائرمنٹ


 MA. CTD.
 23-09-2021

Attested


 DSP DFU/CTD
 ABBOTTABAD
 25-10-21

صفحہ

(12)

تعمیراتی ڈیپارٹمنٹ

نقل و حرکت کے بارے میں 22 روزانہ 25/09/21

22 رپورٹ غیر حافی 25/09/21 کوٹہ 06:30

رپورٹ ضلع سیدالرحمن ASI کا تبادلہ حسب اہم افراد

بالہ جو الہ آباد ڈسٹرکٹ سے 11532-37 کوٹہ 09/10/21

کوٹہ سے ASI کا تبادلہ ہوا مقررہ ASI نے جو الہ آباد

23/09/21 کوٹہ سے تبادلہ کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں

دراستی کی جو کاپی اس کے پاس ہے اسے بھی کوٹہ ڈسٹرکٹ


مذکورہ ASI کو کوٹہ 23/09/21 سے غیر حافی لکھنا چاہیے

رپورٹ غیر حافی 23/09/21 کوٹہ سے اس کے بارے میں

دراستی اور اس کے بارے میں اس کے پاس ہے۔

مقامی

نقل و حرکت کے بارے میں



MM.PS.CTD.HZR
25-09-21

Sir


Forwarded




SHOPS-CTD Hayera

25-9-2021

Pay Stop





مقام ایف ڈی اے

مقام ایف ڈی اے / گورنمنٹ روڈ 8 روزانج 11/10/21

810 آمد / والی / ایف ڈی اے / روڈ / سید رضی / 11/10/21 وقت 8:10

اس وقت میں ایف ڈی اے کے پاس PDAM کورس طور پر دوران سے والی
آیا یہی طرح میں جائز عرض ہوئی ہے کہ ایف ڈی اے آیا تھا اور
روزانج ایف ڈی اے داسو میں پیش کی روایتی کامیابیا ایف ڈی اے

ملک SP ملک کی ایف ڈی اے سے دیگر ملک کو دیا ہے جو ملک کی
میں بتلایا کہ SP ملک کی ایف ڈی اے کو پیش کی ہے بلکہ اس کے
آمد داسو ایف ڈی اے روزانج سے عدالت نے فیصلہ حال کی کہ آج کی پیش کی
روایتی اجازت صاحب کرنا نہیں دیتے ہیں میں پیش کی انتظار میں

7577-86 PDAM کورس
23-8-21

مقام میں سٹیٹس جگہ جگہ میں
مقام میں سٹیٹس جگہ جگہ میں
مقام میں سٹیٹس جگہ جگہ میں

مقام میں سٹیٹس جگہ جگہ میں
مقام میں سٹیٹس جگہ جگہ میں
مقام میں سٹیٹس جگہ جگہ میں

مقام میں سٹیٹس جگہ جگہ میں
مقام میں سٹیٹس جگہ جگہ میں
مقام میں سٹیٹس جگہ جگہ میں

مقام میں سٹیٹس جگہ جگہ میں
مقام میں سٹیٹس جگہ جگہ میں
مقام میں سٹیٹس جگہ جگہ میں

کے پاس ایف ڈی اے
POLICE STATION
CTD
H2R
11-10-2021

Sir
Forwalledch
lu

Station House Officer
CTD Hazara Region
Abbottabad
11-10-21

DSP DFO Ato
for preliminary
Enquiry & Rpt



(44) C.B. 4



CERTIFICATE




This is to certify that


Mr. Said Rahman No. 161 Rank ASI District Kohistan Pallas

has participated and successfully completed Two Weeks "Public Disorder Management Course" No. 81

held at Police School of Public Disorder & Riot Management Mardan from 27.09.2021

to 08.10.2021


Deputy Inspector General of Police,
Training
Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.



Director
Police School of Public Disorder
& Riot Management Mardan.

ammm

جناب عالی! بحوالہ نقل ریٹ و درجہ 22 روزنامہ 25⁰⁹/₂₁ رپورٹ میں ماضی
نقل ریٹ و درجہ 08 روزنامہ 10¹⁰/₂₁ آند / ایل / رپورٹ / روانگی سیدالرحمن
ASI حصول ہو کر ملاحظہ نقل ریٹ ہائے سے پایا گیا ہے کہ سیدالرحمن
بم 161/ASI جسکا تبادلہ حسب اطمینان بحوالہ آرڈر 11532-37/EC
حورم 10⁹/₂₁ ضلع ایرووہستان سے DIK رجسٹر ہوا تھا جو مذکورہ ASI
بحوالہ 05 روزنامہ 23⁹/₂₁ کو رینیا ماضی بحوالہ CTD ریٹ آباد کسے کی
مذکورہ تاریخ کو ماضی حاضر میں آیا جس پر مذکورہ ASI کے علاقہ
درجہ 22 روزنامہ 25⁰⁹/₂₁ کو رپورٹ میں ماضی درجہ کیٹی جس پر
مذکورہ کیٹی سے اس حسب اطمینان ای مہیا بند کیٹی جس نے حورم 11¹⁰/₂₁
کو بحوالہ 08 رینیا ماضی کی رپورٹ ماضی میں کی جس پر تھے بطور اندازہ
آفسر مقرر کیا گیا جو ماضی نے حسب ضابطہ انوائسری ما آغاز کرتے ہوئے
عبداللہ 543 اور نیل مدارخان بم 705 کو دستخط کر کے ہر دو
کے تحریری بیانات قلمبند کیے جو کہ پھر انوائسری لیا گیا ہر دو نے
اپنے اپنے بیان میں ایسا ہے کہ سیدالرحمن ASI بم 161 کا تبادلہ
حسب اطمینان بالا بحوالہ آرڈر ماضی 11532-37/EC حورم 10⁹/₂₁ کو
ضلع ایرووہستان سے DIK رجسٹر ہوا تھا جو انوکھم حصول ہونے پر
انہوں نے مذکورہ ASI کو اس کے تبادلے کے متعلق آگاہ کیا جس نے
جواب ایسا کہ ابھی وہ کسی ما میں صرف ہے بعد میں روانگی کے
متعلق آگاہ کیے گا جس پر انہوں نے اطلاعاً رپورٹ درجہ 05 روزنامہ
13⁹/₂₁ کو درجہ کی ہے۔ اسی طرح حذیر ضلعی جانتے تعلق سیدالرحمن
ASI بم 161 کو بھی جو کہ DIK میں لکھنات ہے بذریعہ ماضی انوائسری
میں 4309-10/R حورم 25¹⁰/₂₁ بوساطت ای مہیا برائے حورم 27¹⁰/₂₁ کو
طلب کیا مگر مذکورہ مقررہ تاریخ کو حاضر نہ ہوا۔ اسی طرح
دوبارہ بذریعہ ماضی انوائسری 4374-75/R حورم 29¹⁰/₂₁ کو

کو بساطت کی صلیب برائے 11/21 02 کیلئے طلب کیا گیا تھا جو
حضور نارنج کو حاضر نہ ہوا بلکہ ایک خرید پر لگو کر بزرگم فیکس لکھ
جیسو والی کہ اسکی تنخواہ چاہ ستمبر سے بند ہے اور تنخواہ جلتے کی
صورت میں پیشی کیلئے حاضر ہوگا۔

ضابطہ والا!

سید الرحمن ASI جو کہ ایک ذمہ دار پولیس افسر ہے اور
حساب اظہم افران بالا مذکورہ کا تبادلہ بحوالہ آرڈر نمبر 11532-37/EC
حورم 9/21 کو ضلع ایروٹھان سے DIK رجسٹر ہوا تھا جو متعلق
ایک کاروں نے اس کے تیار کے متعلق آگاہ کیا تھا اور اطلاعاً
ریورٹ درجہ روزنامہ بھی کی ہے مذکورہ نے اطلاع ہونے کے باوجود
رجسٹریشن حورم سے حورم 9/23 کو ٹھکانہ CTD ریہٹ آباد کیلئے روانہ کی
تھی مگر ٹھکانہ میں حاضر نہ ہوئی صورت میں مذکورہ کے خلاف عدویہ 22
روزنامہ 9/25 کو ریورٹ غیر حاضری درجہ ہوئی جس پر مذکورہ ASI کی
تنخواہ حساب اظہم ضابطہ کی صلیب تنخواہ بند ہوئی اور حورم 11/10
کو ٹھکانہ میں آمد کے ایجا جائے تصدیق DIK کیلئے روانہ ہوا جس سے
پر بات عیاں حکم مذکورہ نے افران بالا کے حکم کو لیکر لکھت ڈالنے
ہوئے رجسٹریشن حورم سے حورم 9/23 تا 11/10 تک بغیر کسی حکم اور
افران بالا کے نوٹس میں لائے بغیر دیدہ دالسنہ طور پر غیر حاضر
ہوا ہے اسی طرح مذکورہ کو برائے بیان حاضر ہونے کیلئے 02 دفعہ
طلب کیا گیا مگر مذکورہ جان بوجھ کر حاضر نہیں ہوا ہے جس سے ثابت
حکم مذکورہ انڈوائٹری کا سامنا نہیں کرنا چاہتا ہے۔

لکھنؤ دوران انڈوائٹری، بیانات اور مذکورہ کی عدم حاضرگی
سے ثابت ہو گیا حکم سید الرحمن ASI 161/حورم 9/23 تا
10/10 تک کل 18 لوگ بغیر کسی اطلاع اور بغیر کسی نوٹس

16

-- ۲ -- ۵۵



میں لگائے دیکھو دائیں طرف پر غیر حاضر ہوا ہے اور
 من فری سے روزی کی ہے جس سے مذکورہ ASI کی نئی
 غفلت اور لاپرواہی پائی گئی ہے جس نے صلاح و تدبیر
 انکواری عمل میں لانے ہوئے مذکورہ کی عمرہ غیر عادی
 18 نومبر بلا تنخواہ کرنے کے علاوہ خاص سزا کی سفارش
 کی جاتی ہے۔

انکواری رپورٹ صریح ہو کر مراد صلاح
 گزارش ہے۔

Mander
 DSP DFU/CTD
 ABBOTTABAD
 15-11-2021

*Issue him Consen & Abscon
 To catch him without pay.*

[Signature]
 SR CTO Muzara
 Abbottabad

(1)

درخواست پست آنکارا
کتاب حساب DSP صاحب صدر

ضلعی

میرزا علی محمد صاحب کا تعلق شہر شہر آنکارا ہے اور صدر DSP
صاحب نے فرمایا تھا میرے ذمہ دار DSP صاحب صدر
ایک میرزا نام شہر شہر آنکارا کے ہیں دیا تھا وہ میری ذمہ داری سے واقف

میں
کے آنکارا شہر کے صدر علی محمد صاحب کی درخواست پر جیسا کہ اور حال موجود ہے
یاد پر پیش بیوی اجازت نہ دی

(2) اسی طرح میرزا محمد صاحب کی حالت کتنی عجیبی تھی اس کی تاریخ 24-8-75
23-8-21

PDRM فورس میں آ رہے ہیں صدر آنکارا شہر کے صدر علی محمد
خبرداران نے عمر آ رہے ہیں اور ان کے لیے جان کو جو سرور کی ہے
جان کی اطلاع نہ دی اور ہم دونوں نے اس کے ساتھ PDRM صدر میں
کو رہا گیا اور 21 اگست کو میں نے اس کے ساتھ 21 اگست کو یہ بھی وہ ثابت
تھی

(3) وزیر ناظم آئی ڈی سے میری پیشگی روٹی کے بارے میں اس کے بارے میں

میری شہر کی روٹی کے بارے میں

کی صورت 25/21 کو منقسم کی ہے جس کے بارے میں میری غیر جانبداری کے بارے میں

یہ لکھ جا رہا ہے

(4) میری ڈاکیومنٹ اور ناظم 11/21 کو منقسم کی شہر کی شہر کی کوئی کوئی کوئی

ڈاک اور میں نے میرا حوالہ منسما کا انتظار کیا یہ کہ تم ان کے بارے میں

بہت بڑا سزا دلوانی اور میری شہر میں مہینہ تک بند رہی ہے اور جسے

میں نے اپنی حالت چھوڑنے سے ہے کیا۔ DSP میں آئی ڈی کے بارے میں

رہا اور اب جسے نہیں اور سلی میری ہے میرے ساتھ جاتا ہے جو DSP

صاحب میرا صدر اور آنکارا شہر کے ذمہ دار ہیں اور DSP میں

جسے نقل کرنا اور میری شہر کے بارے میں DSP میں

پس P.T.O

18

②

السيد علي بن فزولوف و شقيقه السيد علي بن فزولوف FSL
غير جانب دار التفسير و التوجيه الكائن في اعلم شارع في
كوالالمين في مال قوسمان عراني في كوالالمين
الفاصل

سران DIR CID SI 161 H
0346-3850774
28-11-2021

كاتب براء الملام في باب 148

Famoud M.P

30/11/2021

Sir Famoud M.P

Handwritten signature

Handwritten signature

29/11/2021



OFFICE OF THE:
SUPERINTENDENT OF POLICE,
COUNTER TERRORISM DEPARTMENT (CTD),
HAZARA REGION, AT ABBOTTABAD.
Tel No. 0992-9310454 Fax No. 0992-9310011
No 4616-17/R.
Dated Abbottabad the 17/11/2021.

To: The Manager,
National Bank of Pakistan,
Besham Swat,
Branch Code 231535.

Subject: PAY RELEASE


Memo:

Kindly refer to this office letter No.3954-56/R dated 29-09-2021.

It is submitted that monthly salary of below mentioned official of CTD Hazara Region was stopped due to absence from official duties vide above quoted reference letter. Now he has joined back his official duty.

S.No	Name of Officials	Bank and Account Details
1.	ASI Said Rehman No. 161-H	Account Number: 4116371370 Bank Details: National Bank Of Pakistan, 231535 NBP Besham Swat NBP Besham Swat

It is therefore requested that his monthly salary may kindly be released with immediate effect, please.


Superintendent of Police,
Counter Terrorism Department (CTD)
Hazara Region at Abbottabad

Copy for information to:

1. Superintendent of Police Hqrs, CTD Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.



D
arun

180 B

OFFICE OF THE:
SUPERINTENDENT OF POLICE,
COUNTER TERRORISM DEPARTMENT (CTD),
HAZARA REGION, AT ABBOTTABAD.

Tel No. 0992-9310454 Fax No. 0992-9310011

No. 4613-15/R.

Dated Abbottabad the 17/11/2021.

Subject: **ORDER**


ASI Said Rehman No. 161-H while posted in DFU staff CTD District Upper Kohistan was transferred to CTD D.I Khan vide Worthy DIG CTD, Peshawar office order No. 11532-37/EC/CTD dated 10-09-2021. You were informed and relieved by Incharge DFU Upper Kohistan accordingly vide DD No. 05 dated 23-09-2021 but you did not submit your arrival at Police Station CTD Hazara Region and was absented vide DD No. 22 dated 25-09-2021. Later on 11-10-2021 you submitted your arrival at Police Station CTD Hazara Region vide DD No. 08 dated 11-10-2021. You remained absented from official duty for 18 days from 23-09-2021 to 10-10-2021 without getting any prior permission or leave from competent authority. In this regards a departmental enquiry was initiated against you.

The enquiry was marked to DSP Sajjad Haider to investigate the matter. You were informed regarding your enquiry and directed to appear before enquiry officer but you never appeared before enquiry officer. After conducting impartial enquiry the Enquiry Officer has recorded statements of other officials and heard them in person and submitted his finding report. In his report he recommended that you intentionally absented yourself from duty and thus remained 18 days absent. You also failed to appear before enquiry officer to submit plausible reply in your defense. The Enquiry officer recommended you for punishment.

After going through the enquiry papers, documents on record and recommendation of enquiry officer now, I Tariq Habib, Superintendent of Police, CTD Hazara Region being Competent Authority, agree with the recommendations of enquiry officer however, a lenient view has been taken and am of the opinion that while you ASI Said Rehman No. 161-H found you incompetent and guilty for the allegations therefore minor punishment of CENSURE is imposed upon you under the provision of Police Rules 1975 with amendments 2014 while absence period from 23-09-2021 to 10-10-2021 a total of 18 days is hereby treated as without pay.

OB No. 42

Dated: 17-11-2021


Superintendent of Police,
Counter Terrorism Department (CTD)
Hazara Region at Abbottabad

Copy to:-

1. Deputy Inspector General of Police, CTD, Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. Superintendent of Police, CTD DI Khan Region.
3. Accountant/SRC, CTD Hazara and DI Khan for necessary action.

خدمت جناب DIG صاحب کاؤنٹر ٹیرازم ڈیپارٹمنٹ ضلع چناب ٹھوٹھوہ

حکم اپیل بظرف حکم درج 17/11/21 جناب SP صاحب CTD نمرہ
زین اکیڈمی آباد 03 فرم 42 جس سے سائیل وغیرہ جانوی
طرف سے بطور انتقامی کارروائی غیر حاضر کر کے دوران شدہ دوران
کورس PDRM کو بغیر تنخواہ قطعی قرار دیکم سزا دوائی ہے


اپیل صاحب ڈی پی

جناب عالی

1۔ سائیل حکم CTD میں پہلے کر دی گئی اس میں بطور سبب اسٹریٹسٹاٹ کے
حسب حکم ان دن بلا صاحبان درج 09 27 تا 10 10 021 دوران شدہ
PDRM شدہ دوران کورس میں شرکت کیے آج دوران میں شرکت کے اور باقاعدہ
سرٹیفکیٹ حاصل کی ہے - (نہل سرٹیفکیٹ حاصل کردہ لف ہے)

2۔ سائیل خلاف بطور انتقامی کارروائی SP صاحب کے رپورٹ کے ایک طرف بغیر اطلاع کے
روایتی کردی اور دوسری طرف سائیل وغیرہ حاضر کروا کر کلکٹرن انکوائری کے ذریعے
سزا دوائی اور DI خان کو انکوائری سے جاننے کی بجائے جلد بازی میں خود
کلکٹرن طور پر منظم کر دیا جس کی نسبت SP ننگر صاحب نے

3۔ جب سائیل شدہ دوران کورس سے واپس آیا تو معلومات میں ویرانی منجائی SP صاحب
کو پیش کرنے کی کوشش کی مگر رپورٹ منجائی نہیں کرنے اور SP صاحب سے معلومات
نہ ہونے وہ اور یوں سائیل کو سزا دوائی

نوٹ شدہ


لینہ السید عابدہ کم اپیل کو منظور فرما کر حکم درج 17/11/21 ڈ
منوع فرمایا جائے
المقوم 24/11/21


24/11/21

سائیل سید حسین شاہ
H-161



OFFICE OF THE
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE,
COUNTER TERRORISM DEPARTMENT,
KHYBER PAKHTUNKHWA, PESHAWAR.

No. 8770-74 /EC/CTD: Dated 23/05/2022.

ORDER

As the Sub Inspector Mr. Said Ur Rehman No. 161/H had submitted an appeal before Worthy Deputy Inspector General of Police, CTD KP against the punishment i.e 18 days without pay and censure, awarded by SP CTD Hazara Region, the competent authority, after hearing the said SI in person, has filed his appeal and upheld his punishment.


SP/ HQrs:

For Deputy Inspector General of Police,
CTD, Khyber Pakhtunkhwa,
Peshawar.

Copy of above is forwarded to for information and necessary action:-

1. The Superintendent of Police, CTD DI Khan Region.
2. The Superintendent of Police, CTD Hazara Region.
3. Accountant, PSO, OASI, SRC, CTD HQrs: Peshawar.
4. All concerned.

روزنامہ عجم ۹/۵/۲۱ء کے صفحہ ۱۰ پر شکار و شکار گاہوں کے بارے میں لکھا گیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ آج کل کے حالات سے آگاہی کے لیے شکار گاہوں کے بارے میں لکھا گیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ آج کل کے حالات سے آگاہی کے لیے شکار گاہوں کے بارے میں لکھا گیا ہے

۱۰ ان سائل کو دفعہ ۱۰/۵/۲۱ء کے آرکائیو میں شامل کیا گیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ آج کل کے حالات سے آگاہی کے لیے شکار گاہوں کے بارے میں لکھا گیا ہے

۱۱ ان سائل کے خلاف سرکاری نوٹس جاری کیے گئے ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ آج کل کے حالات سے آگاہی کے لیے شکار گاہوں کے بارے میں لکھا گیا ہے

۱۲ ان سائل کو دفعہ ۱۰/۵/۲۱ء کے آرکائیو میں شامل کیا گیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ آج کل کے حالات سے آگاہی کے لیے شکار گاہوں کے بارے میں لکھا گیا ہے

۱۳ ان سائل کو دفعہ ۱۱/۵/۲۱ء کے آرکائیو میں شامل کیا گیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ آج کل کے حالات سے آگاہی کے لیے شکار گاہوں کے بارے میں لکھا گیا ہے

Sir,
Forwarded of M
CTB
D11
26.5.22

۱۶۱
۱۱

Form:

To: T0925620886

12/01/2023 15:34

#273 P.001



OFFICE OF THE:
Sr: SUPERINTENDENT OF POLICE,
COUNTER TERRORISM DEPARTMENT (CTD),
HAZARA REGION, AT ABBOTTABAD.
Tel No. 0992-9310454 Fax No. 0992-9310011
No. 172-74 IR.

Dated Abbottabad the 12/01/2023.

To: The Commandant,
Police Training College (PTC),
Hangu.

Subject: MERCY PETITION

Memo:

Kindly refer to CPO Letter No. 18/E-III dated 05-01-2023 on the subject cited above.

It is submitted that a complaint/application of SI Said Rehman No. 161-H received to this Unit from the office of Worthy Inspector General of Police Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar with reference and subject cited above. He is presently undergoing upper college Course at PTC Hangu.

His statement and appearance in person is necessary for finalization of his complaint. Therefore he may kindly be directed to appear before undersigned on 16-11-2023, please.

Sr: Superintendent of Police,
Counter Terrorism Department (CTD)
Hazara Region at Abbottabad

Copy to:

1. Deputy Inspector general of Police, CTD Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar w.r.t his good office diary No. 120 dated 06-01-2023 for information.
2. Superintendent of Police, CTD D.I.Khan Region.


MAS1

Por m.a.

13/11

1304

PTC



1935

(24)

**OFFICE OF
THE COMMANDANT
POLICE TRAINING COLLEGE HANGU**

Office Phone # 0925-621886 Fax 0925-620886

To: The Sr: Superintendent of Police,
Counter Terrorism Department (CTD)
Hazara Region at Abbottabad.

No. 48 /GC, Dated Hangu, the 17 /01/2023.


Subject: **MERCY PETITION**

Memo:

Please refer to your office Memo: No. 172-74/R, dated 12.01.2023.

It is intimated that SI Said Rehman No. 161/H of your Region now undergoing Upper College Course cannot be spared on the date mentioned in your above quoted reference due to engagement in final examination. His application in original is enclosed herewith, please.

Encl: (01).


/ Commandant
Police Training College, Hangu.

قیمت
50 روپے

8709

پشاور بار ایسوسی ایشن، خیبر پختونخواہ

ایڈوکیٹ: فقیر حسرت
بار کونسل ایسوسی ایشن نمبر: BI-08-2651
رابطہ نمبر: 0300-9014729



بعدالت جناب: صدر محترمہ خواہ سروس ٹرمینل صدر

مخانب: اسرار احمد	دعویٰ: سروس اسپی
سید المرشد حسین ای	علت نمبر:
بنام	مورخہ:
حکومت	جرم:
	تھانہ:

باعت تحریر آنگہ

سید المرشد حسین ای
ایڈوکیٹ

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی کارروائی متعلقہ
آن مقام سروس اسپی کے لیے فقیر حسرت اسرار احمد کے لیے
کر کے اقرار کیا جاتا ہے کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کل کارروائی کا کال اختیار ہوگا، میر مائیکل صاحب کو
راضی نامہ کرنے و تقرر ثالث و فیصلہ بر حلف دینے جواب دعویٰ اقبال دعویٰ اور مورخہ ازلہ ہر قسم کی تصدیق
زریں پر دستخط کرنے کا اختیار ہوگا، نیز بصورت عدم پیروی یا ڈگری یا طرفہ یا اپیل کی اور منسوخی، نیز
دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا مختار ہوگا اور بصورت ضرورت مقدمہ مذکورہ کے کل یا جزوی
کارروائی کے واسطے اور ڈیکل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنے مختار تقرر کا اختیار ہوگا اور صاحب
مقرر شدہ کو وہی جملہ مذکورہ بالا اختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساتھ اور دائرہ منظور و قبول ہوگا
دوران مقدمہ میں جو خرچہ ہر جائزہ التوائے مقدمہ کے سبب سے ہوگا اس کی تلافی پیشی مقام دورہ یا حد سے
باہر ہو تو وکیل صاحب باہد نہ ہوں گے کہ پیروی مذکورہ کے لیے اس کا تہہ لکھ دیا تاکہ سند رہے
المرقوم: 09/09/2023
E-mail Faqir Hussain

مقام: واہ شہ - الہ آباد

نوٹ: اس وکالت نامہ کی فونوکاپی ناقابل قبول ہوگی۔

09/09/2023